

# دیکھ بھال اور موقع فراہم کرنے کا منصوبہ



## دیکھ بھال کا منصوبہ

چونکہ معیشت میں تبدیلی آتی رہتی ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ بڑھتا ہوا دباؤ محسوس کر رہے ہیں جسکی وجہ سے انہیں اپنی اور اپنے پیار کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے حکومت تمام صوبے میں دیکھ بھال اور خدمات میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہے جس پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔ اس ذریعے سے خاندان جو دباؤ محسوس کر رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے انہیں ہر موقع دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کرسکیں اور آگے بڑھ سکیں۔



بچوں کی زیادہ دیکھ بھال، زیادہ انتخاب

ڈھائی سال کی عمر کے بچوں کو کنٹر گارٹن کی اہلیت تک مفت پر ی سکول کی فراہمی کر کے خاندانوں کو اعلیٰ معیار کی چائلڈ کنر مہیا کر کے بجٹ کو بڑھانا جو وہ پورے دن کے کنٹر گارٹن سے حاصل کریں گے، ایک بچے کے خاندان کو ۱۷,۰۰۰ کی بجٹ، اوسطاً کرتے ہوئے۔



دانتوں کے اور دواؤں کے اخراجات میں کمی لانا

نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو متعارف کروانا، ۸۰ فیصد تک واپس کرنا، زیادہ سے زیادہ ۴۰۰۰ ڈالر ایک فرد کے لیے، ۶۰۰ ہر جوڑے کے لیے اور ۷۰۰ چار افراد پر مشتمل خاندان کے لیے، اہل نسخہ جاتی دواؤں اور دانتوں کے اخراجات کے لیے سالانہ، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کام کرنے والی جگہ پر صحت سے متعلق فوائد حاصل نہیں ہیں یا انکے پاس اونٹیریو پلس نہیں ہے۔



65 سے زائد عمر افراد کے لیے مفت نسخہ جاتی دوائیں

تمام 65 سال اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے نسخہ جاتی دوائیں کاملاً مفت کرنا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بھی عمر رسیدہ شہری کبھی بھی ضروری دواؤں کے بغیر نہ جائے۔ اونٹیریو ڈرگ بینیفٹ کی سالانہ کٹوتی اور باہمی ادائیگی کو ختم کرنا جس سے ایک اوسطاً اونٹیریو کے عمر رسیدہ فرد کو ۲۳۰ ڈالر کی بجٹ ہوگی۔

ہم خاندانوں کو دیکھ بھال کے حصول میں جب انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہو کیسے مدد کر رہے ہیں اونٹیریو ہے:

- ڈھائی سال کی عمر کے بچوں کو کنٹر گارٹن کی اہلیت تک مفت پر ی سکول کی فراہمی کر کے خاندانوں کو اعلیٰ معیار کی چائلڈ کنر مہیا کرنا اور بجٹ کو بڑھانا جو وہ پورے دن کے کنٹر گارٹن سے حاصل کریں گے، ایک بچے کے خاندان کو اوسطاً ۱۷,۰۰۰ کی بجٹ کرواتے ہوئے۔
- نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو متعارف کروانا، ۸۰ فیصد تک واپس کرنا، زیادہ سے زیادہ ۴۰۰۰ ڈالر ایک فرد کے لیے، ۶۰۰ ہر جوڑے کے لیے اور ۷۰۰ چار افراد پر مشتمل خاندان کے لیے، اہل نسخہ جاتی دواؤں اور دانتوں

کے اخراجات کے لیے سالانہ، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کام کرنے والی جگہ پر صحت سے متعلق فوائد حاصل نہیں ہیں یا انکے پاس اونٹیریو پلس نہیں ہے

- بزرگوں کے لیے ایک نیا سینیرز ہیلتھی ہوم پروگرام متعارف کروانا۔ یہ عمر رسیدہ لوگوں کے گھر میں رہنے کے اخراجات سے منسلک ہے، جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انہیں ۷۵۰ ڈالر تک کا فائدہ فراہم کرے گا ۷۵ سال اور اس سے زیادہ تک کے عمر رسیدہ گھر والوں کے لیے تاکہ انہیں انکے گھروں کو برقرار رکھنے کے اخراجات میں مدد دی جائے۔
- دماغی صحت کی دیکھ بھال اور منشیات کی خدمات کو تمام اونٹیریو میں بہتر اور تیز تر کر کے سینکڑوں ہزاروں مزید بچوں، نوجوانوں اور بالغوں تک رسائی دینا، تمام فنڈنگ کو چار سالوں میں ۱۷ بلین سے اوپر تک لانا۔
- لمبے عرصے کی دیکھ بھال کے گھر میں روزانہ کی مقدار کو ہر شخص کے لیے بڑھا کر اوسطاً چار گھنٹے تک کرنا۔
- اگلے دس سالوں کی مدت تک دیکھ بھال کے طالب لوگوں کیلئے ۳۰،۰۰۰ بستر پیدا کرنا، ۲۰۲۲ تک ۵،۰۰۰ نئے بستر شامل کرنا، ان لوگوں کی مدد کرنا جو آزادانہ طور پر نہیں رہ سکتے اور انکے لئے ہر سکون ماحول مہیا کرنا جو اپنی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں۔ یہ نئے بستر ان موجودہ ۳۰،۰۰۰ بستروں کے علاوہ ہیں جو بہتر بنائے جا رہے ہیں۔
- نئے ڈیمینشیا کے تشخیص شدہ لوگوں کے لیے دیکھ بھال بہتر بنانا، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔
- دس سال کے عرصہ میں تقریباً ۱۹ بلین ڈالر سے درستی کرنا اور نئے ہسپتال تعمیر کرنا جس میں انٹاریو ہسپتال فار سک چلڈرن (سک کڈز) کے نئے پیشنٹ کیئر سینٹر کے نقشے اور تعمیر کیلئے ۲.۴ بلین ڈالر تک اور آٹوا ہسپتال کے سوک کیمپس کی تجدید نقشے اور تعمیر کیلئے ۱.۸ بلین ڈالر تک شامل ہے۔
- انتظار کا وقت کم کرنا، گنجائش کے مسائل سے عہدہ برآ ہونا، اور انٹاریو کی بڑھتی اور معمر ہوتی آبادی کی ضروریات کو بنانا، بذریعہ انٹاریو ہسپتالز ۲۰۱۸۔۔۔۔۔ ۲۰۱۹ میں مزید ۸۲۲ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری۔۔۔۔۔ تقریباً دس سال میں ہسپتالوں میں حکومت کی واحد بہت ہی بڑی سرمایہ کاری۔
- تقریباً ۴۷،۰۰۰ بالغان کیلئے جن میں نشوونما معذوری ہے کی خدمات کیلئے ۱.۸ ڈالر کی سرمایہ کاری سے ایک معقول اور عمدہ معاشرے کی تعمیر کرنا، ایسے ذریعے کی معرفت جو کمیونٹی کو با معنی انتخابات اور متحرک حصہ داری کے قابل بناتا ہے۔
- ایک اضافی ۳.۲ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے سماجی مدد حاصل کرنے والوں کی اگلے تین سالوں میں انکی شرح بڑھا کر، پیچیدہ ضابطوں میں کمی کرنا اور نظام کو آسان بنا تے ہوئے ان ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔